



سوال

(15) تلاوت قرآن پاک پر اجرت لینے کی حرمت

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

تلاوت قرآن پاک پر اجرت لینے کی حرمت پر کیا دلیل ہے۔ انوکھ فی اللہ: ابو عمر نذیر (1/2/1414ھ)۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ولاحول ولا قوة الا باللہ

تلاوت قرآن پاک پر اجرت لینے کی حرمت پر دلائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے درج ذیل ملاحظہ فرمائیں:

1 پھلی دلیل: اللہ کا قول:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا... ٤١... سورة البقرة

(اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو)

یہ خطاب اگرچہ یہودیوں کی طرف متوجہ ہے لیکن بمطابق مسلمہ اصول کے اعتبار خصوصیت سبب کا نہیں بلکہ لفظ کے عموم کا ہے۔ ابو العالیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: "اس پر اجرت مت لو"۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر: (1/83) میں بھی ہے اور یہ بصیرت والوں کے لیے صریح دلیل ہے۔

2۔ دوسری دلیل: وہ روایت جو ابو محمد الخلدی نے الشواہد: (ق 268/1) میں اسمعیل بن سعید اللہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبد الملک بن مروان نے کہا، اے اسمعیل! میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دین میں آپ کو عطیہ یا اجرت دوں گا اسمعیل نے کہا امر المؤمنین! یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو ام الدرداء نے ابو الدرداء سے حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تعلیم قرآن پر اجرت میں کمان لے گا تو اللہ اسے قیامت کے دن آگ کی کمان کا قلابہ پھندا دے گا۔ امام بہقی نے (6/126) بسند جید روایت کیا ہے، اسی طرح ابن العرکافی نے الجھر السقی میں اور حافظ ابن حجر نے تلمیض میں کہا ہے۔ اور عبادہ بن صامت کی حدیث اس کی شاہد ہے جیسے احمد نے (5/315) میں، الحاکم نے (2/41) میں، ابو داؤد نے (2/3416) میں، ابن ماجہ نے برقم: (2157)، طحاوی نے (2/246) کتاب الاجارات میں ذکر کیا ہے کما فی السلسلہ (1/457)(459)، مشکوٰۃ: (1/258)۔



3- تیسری دلیل: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: مجھ پر ایک قاری گزرا اس نے قرآن پڑھا پھر مانگنے لگا، تو انہوں نے انا اللہ پڑھی پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو قرآن پڑھے اور اللہ سے مانگے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔ ترمذی رقم: (3096)، احمد (4/432)(439)۔ دیکھیں مشکوٰۃ: (1/192)، حدیث صحیح ہے جیسے السلسلہ الصحیحہ: (1/461)، رقم (257) میں ہے۔

4- چوتھی دلیل: ابن نصر مروزی نے قیام اللیل ص: (74) میں، احمد نے (39-3/38) میں حاکم نے: (4/547) میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

« تعلموا القرآن، وسلوا اللہ بہ الجنت، قبل أن يتعلم قوم، يسألون بہ الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثہ: رجل یبایہ بہ، ورجل یستأکل بہ، ورجل یقرأہ للہ»

(قرآن سیکھو اور اس کے بدلے اللہ سے جنت مانگو ایسے لوگوں کے آنے سے پہلے جو قرآن سیکھیں اور اس کے بدلے دنیا مانگیں گے قرآن کو تین قسم کے لوگ سیکھتے ہیں ایک وہ جو سیکھ کر اس کے ساتھ فخر کرتا ہے دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے تیسرا وہ جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے)۔ حدیث شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ اور شیخ البانی نے الصحیحہ (برقم: 258) میں اسے صحیح کہا ہے۔

5- پانچویں دلیل: جابر اور سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت کرتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں کچھ اعرابی اور کچھ جمعی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«اقرأوا قل حسن و سبیء اقوام یقیمونہ کمایقام القدرح یتخلونہ ولا یتخلونہ»

(پڑھو! سب ٹھیک ہے عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی وہ اس قرآن کو (پڑھنے میں) اس طرح سیدھا کریں گے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے اجرت مجلد (دنیا) چاہیں گے اور اجرت مؤجلہ (آخرت کا اجر و ثواب) کی پروا نہیں کریں گے)۔ ابوداؤد (830 1) احمد: (397 3) (357) ابن حبان رقم: (1876)۔

6- چھٹی دلیل: عبدالرحمان بن شبل الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا جب تو میرے غیے میں آئے تو ٹھہر جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تونے جو کچھ سنا مجھے اس کی خبر دے تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ "قرآن پڑھو اور اس پر کچھ مت کھاؤ اور نہ مال بناؤ اور سے جفا بھی نہ کرو اور نہ اس میں غلو کرو"۔ طحاوی: (2/246) کتاب الاجارات احمد: (429-3/428)۔ الطبرانی الجمع: (4/73)

یہ احادیث اور ایسی دیگر احادیث تلاوت قرآن پر اجرت کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت پر اجماع کیا ہے لیکن قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے میں اختلاف ہے۔ رد المحتار: (39-5/35) میں ہے

(الأخذ والمعطی کلہما اثمان والمعروف کالمشروط)

(لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہیں اور معروف مانند مشروط کے ہے)۔

کاندھلوی کی حیاۃ الصحابہ میں اور حدیثیں بھی ہیں۔ مراجعہ کریں: (231-3/230)

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 69

محدث فتویٰ